

بس 3 منٹوں میں WFA درخواستوں کے لیے کلیدی نکات میں مہارت پائیں!



1. اپنے دعویٰ کا مہینہ چیک اپ کریں • وقت پر جمع کروائیں
- ہر چھ ماہ میں ایک بار درخواست دے سکتے ہیں (مثلاً جنوری-جون، فروری-جولائی، مارچ-اگست)
 - مثال کے طور پر، جنوری سے جون کی مدت پر محیط درخواستوں کا اگلے ماہ، یعنی 1 جولائی سے 31 جولائی کے اندر جمع کرایا جانا ضروری ہے

2. "گھرانے" کی تعریف جانیں • عمر رسیدہ اور تمام ممبران کی اطلاع کریں

- ہر ایک گھرانہ سے مراد عام طور پر ایک ہی جگہ پر رہائش پزیر تمام افراد سے لی جاتی ہے (بشمول عمر رسیدہ افراد اور گھر لانے کے نئے اراکین)



3. ماہانہ ملازمت کی گھنٹوں کی شرائط • زیادہ کام کریں، زیادہ حاصل کریں

- غیر واحد والدین کے گھرانے کے لیے کم از کم 144 ملازمتی گھنٹے فی ماہ
- واحد والد/والدہ کے گھرانے کے لیے کم از کم 36 ملازمتی گھنٹے فی ماہ
- کم از کم کو پورا کرنے کے بعد، کام کے اوقات کار جتنے زیادہ ہوں گے، الاؤنس اتنا بھی زیادہ ہو گا

4. عام طور پر ترک کردہ آمدنی اور اثاثہ جاتی اشیاء پر توجہ دیں



عام طور پر ترک کردہ آمدنی

- رشتہ داروں یا دوستوں کی جانب سے عطیات جو ساتھ رہائش پزیر نہ ہوں (مثلاً ایک ساتھ نہ رہنے والے بچوں کی طرف سے عطیات، رشتہ داروں یا دوستوں کی جانب سے ادا شدہ اخراجات)
- گھرانے کے افراد کی جزو وقتی آمدنی (بشمول ایک ہی جگہ پر رہائش پزیر بیچے)
- لازمی پروویڈنٹ فنڈ (MPF) / پروویڈنٹ فنڈز میں رضاکارانہ شراکتیں



عام طور پر ترک کردہ اشیاء

- جمع شدہ فوائد جنہیں MPF (عام طور پر 65 سال کی عمر تک) / پروویڈنٹ فنڈز سے نکالا جا سکتا ہے
- انشورنس پالیسیوں کی نقد قیمت
- جوئے کا اکاؤنٹ بیلنس
- ورچوئل بینک اکاؤنٹ بیلنس
- ہانگ کانگ کے اندر اور باہر تمام اثاثے (مثلاً بینک اکاؤنٹس، جائیدادیں)

5. جامع سماجی تحفظ کی معاونت (CSSA) اور WFA کی کوئی بیک وقت وصولی ممکن نہیں



- CSSA اور WFA کو ایک ہی ماہ میں بیک وقت وصول نہیں کیے جا سکتے